

# کیا آپ اہل کتاب کی عورت سے شادی کی نصیحت کرتے ہیں؟

الزواج من الكتابیة هل تنصحون به؟  
[ اردو - اردو - urdu ]

شیخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال و جواب ویب سائٹ

تنسيق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



## کیا آپ اہل کتاب کی عورت سے شادی کی نصیحت کرتے ہیں؟

کیا سلفی مسلمان شخص کے لیے اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کئی ایک شروط ہیں، برائے مہربانی یہ بتائیں کہ وہ کونسی شروط ہیں؟

الحمد لله:

سوال نمبر ( ۴۵۶۴۵ ) کے جواب میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ بالخصوص حلال ہے اور ہم نے اہل کتاب کی عورت سے شادی کی شروط بھی بیان کی ہیں جن کا عورت میں پایا جانا ضروری ہے، ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں بہت نقصان اور ضرر پایا جاتا ہے، اور پھر بعض عورتوں میں تو کچھ شرطیں بھی نہیں پائی جاتیں۔

اور سوال نمبر ( ۱۲۲۸ ) اور ( ۲۰۲۲۷ ) اور ( ۴۴۶۹۵ ) کے جوابات میں ہم نے اہل کتاب کی عورت سے اس دور میں شادی کرنے کی چند ایک خرابیاں بیان کی ہیں، اور ان جوابات میں شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ کی یہ کلام بھی شامل ہے:

"لیکن اس دور میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے والے کے لیے ان سے شر پہنچنے کا خدشہ ہے۔

اس لیے ہو سکتا ہے وہ انہیں اپنے دین کی دعوت دینے لگیں اور اس کے سبب ان کی اولاد نصرانی بن جائے، اس لیے بہت زیادہ خطرہ کی بات ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ مومن شخص ان سے شادی نہ کرے۔

اور اس لیے بھی کہ ان عورتوں کا غالباً فحاشی سے بچنا بہت محال ہے، اور اس طرح کسی دوسرے سے اولاد پیدا ہونے کا خدشہ رہے گا۔ انتہی اور آپ کو سوال نمبر ( ۲۵۲۷ ) کے جواب میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی شروط بیان کی گئی ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔



اور یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جس نے بھی اپنے دین کی افضلیت اور اپنی اولاد کے دین کی افضلیت کو تلاش کرنے کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کا نعم البدل ضرور دے گا، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

"جس نے بھی کوئی چیز اللہ کے چھوڑی تو اللہ اسے اس کا نعم البدل دے گا"

واللہ اعلم .